



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## English

### How to use

- Rinse the parasol base with water to remove concrete dust before first use.
- The parasol base is heavy in order to keep the parasol in place, so be careful when moving it.
- The parasol base must always be placed on a hard and even surface. Do not place the parasol base on sandy, muddy or loose soil.

### Important

The concrete in the parasol base may react adversely with certain types of wood (e.g. eucalyptus), resulting in discolouration if placed on a wood decking. Contact the store where you bought your decking to be sure it is compatible with concrete to avoid any risk of discolouration.

## Deutsch

### Benutzung

- den Sonnenschirmfuß vor der ersten Benutzung mit Wasser abspülen, um Betonstaub usw. zu entfernen.
- Vorsicht beim Bewegen des Sonnenschirmfußes - er ist schwer, damit er den Schirm sicher am Platz halten kann.
- den Sonnenschirmfuß muss immer auf eine feste, glatte Fläche gestellt werden. Den Sonnenschirmfuß nicht auf sandigen, lehmigen Boden oder nachgiebigen Untergrund stellen.

### Wichtig!

Der Beton des Sonnenschirmfußes kann bei einigen Holzarten (z.B. Eukalyptus) Verfärbungen hervorrufen, wenn man ihn auf diese Holzoberflächen stellt. Um sicherzustellen, dass keine Verfärbungsgefahr besteht, bitte mit dem Lieferanten des Bodenbelags Kontakt aufnehmen.

## Français

### Utilisation

- Rincer la base du parasol à l'eau pour retirer la poussière de béton avant la première utilisation.

- La base du parasol est lourde, ce qui permet de maintenir le parasol en place. Déplacer avec précaution.
- La base du parasol doit toujours être placée sur une surface dure et plane. Ne pas placer sur un sol sablonneux, boueux ou meuble.

### Attention

Le béton dans le pied de parasol peut mal réagir au contact de certains types de bois (comme l'eucalyptus), cela peut donc entraîner une décoloration au niveau du pied si celui-ci est installé sur une terrasse en bois. Contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre terrasse pour vous assurer qu'elle est compatible avec le béton.

## Nederlands

### Gebruik

- Spoel de parasolvoet voor het eerste gebruik af met water om betonstof te verwijderen.
- De parasolvoet is zwaar om de parasol op zijn plaats te houden, dus wees voorzichtig bij het verplaatsen.
- De parasolvoet moet altijd op een harde en vlakke ondergrond worden geplaatst. Plaats de parasolvoet niet op zanderige, modderige of losse grond.

### Belangrijk

Het beton in de parasolvoet kan reageren op verschillende houtsoorten (b.v. eucalyptus) en verkleuringen veroorzaiken als de voet op een houten ondergrond wordt gezet. Neem contact op met de leverancier van de ondergrond waar de parasolvoet op zal worden gezet om te controleren of de kans bestaat dat het hout verkleurt.

## Dansk

### Brugsanvisning

- Skyl parasolfoden med vand for at fjerne betonstø, før du bruger den første gang.
- Parasolfoden er tung, så den kan holde parasollen på plads, så pas på, når du flytter den.
- Parasolfoden skal altid placeres på et hårdt og jævn underlag. Placer ikke parasolfoden på sandet, mudret eller løs jord.

### VIGTIG!

Beton i parasolfoden kan reagere uuhensigtsmæssigt, når den kommer i kontakt med bestemte træsorter, f.eks. eukalyptus, og det kan give misfarvning, hvis fodden placeres på en træterrasse. For at undgå misfarvning kan du kontakte den forretning, hvor du har købt træterrassen for at finde ud af, om træet kan tåle beton.

## Íslenska

### Notkunarlæðibeiningar

- Skolaðu sólhílfarstandinn með vatni og fjarlægðu ryk fyrir fyrstu notkun.
- Sólhílfarstandinn er þungur svo hann haldi sólhílfarstandinum á sínum stað, farðu því varlega við að flytja hann.
- Sólhílfin þarf að vera staðsett á hörðu eða jöfn yfirborði. Ekki setja sólhílfarstandinn á sand, leðju eða lausan jarðveg.

### Málvægt

Stepan í sólhílfarsókklinum getur brugðist neikvætt við ákvæðum viðartegundum (t.d. rölltrátræ) sem veldur upplitun á pallaefni. Ráðfærðu þig við aðilann sem seldi þér pallaefni til að vera viss um að það henti með steypu til að koma í vef fyrir upplitun.

## Norsk

### Slik gjør du

- Skyll parasolfoten med vann for å fjerne betongstø før første gangs bruk.
- Parasolfoten er tung for å holde parasollen på plass, så vær forsiktig når du flytter på den.
- Parasolfoten må alltid plasseres på et hardt og jevnt underlag. Ikke sett sammen parasoll på sted der grunnen er sandete, gjørmete eller løs.

### Viktigt

Betongen i parasolfoten kan reagere negativt med enkelte typer tre (for eksempel eukalyptus), noe som kan resultere i misfarging hvis den plasseres på et utegvil i tre. Kontakt varehuset der du kjøpte utegvilet for å sikre deg om at det er kompatibel med betong, så du unngår risikoene for misfarging.

## Suomi

### Käytööhöje

- Poista betonipöly huuhtelemalla aurinkovarjon jalka vedellä ennen ensimmäistä käyttöä.
- Aurinkovarjon jalka on raskas, jotta aurinkovarjo pysyy hyvin paikallaan. Nosta aurinkovarjon jalkaa varovasti.
- Aseta aurinkovarjon jalka aina kovalle ja tasaiselle alustalle. Älä aseta aurinkovarjon jalkaa hiekkaiselle, mutaiselle tai irtonaiselle alustalle.

### Tärkeää

Auringonvarjon betonijalka saattaa reagoida tietyjen puulajien (esim. eukalyptuksen) kanssa ja aiheuttaa värjätyimiä puiseen alustaan/lattiaan. Kysy värjätyimiä välttämiseksi alustan/lattian valmistajalta, reagoiko sen materiaali betonin kanssa.

## Svenska

### Användning

- Spola av parasolfoten med vatten för att få bort löst betongdamm före första användningen.
- Var försiktig när du flyttar parasolfoten, eftersom den är tung för att hålla parasollet på plats.
- Parasolfoten måste alltid placeras på en hård och jämn yta. Placera inte parasolfoten på sandig, lerig eller löst mark.

### Viktigt

Betongen i parasolfoten kan reagera med vissa sorters trä (tex. eukalyptus) och orsaka missfärgningar om den placeras på ett underlag av trä. Kontakta din återförsäljare av underlaget som parasolfoten ska placeras på för att kontrollera om det finns risk för missfärgning av träet.

## Česky

### Návod k použití

- Před prvním použitím opláchněte podstavec slunečníku vodou, abyste odstranili betonový prach.
- Podstavec slunečníku je těžký, aby udržel slunečník na místě, proto při manipulaci s ním budte opatrní.
- Podstavec slunečníku musí být vždy položen na tvrdý a rovný povrch. Nepokládejte podstavec slunečníku na písčitou, blátivou nebo volnou půdu.

### Důležité

Beton, ze kterého je podstavec slunečníku, může negativně působit na některé druhy dřeva (např. eukalyptus). To může vést k odbarvení dřevěné podlahové krytiny. Ujistěte se u výrobce, jestli je vaše dřevěná podlahová krytina kompatibilní s betonem, abyste předešli riziku jejího odbarvení.

## Español

### Instrucciones de uso

- Antes de usar la sombrilla por primera vez, aclara la base con agua para eliminar el polvo de hormigón.
- La base es pesada para aportar estabilidad a la sombrilla, así que ten cuidado al moverla.
- La base de la sombrilla debe colocarse siempre en una superficie dura y plana. No coloques la sombrilla en un terreno arenoso, embarrado o poco compacto.

### Importante

El hormigón de la base de la sombrilla puede reaccionar negativamente en contacto con algunas maderas (como el eucalipto) y provocar que pierdan color. Siquieres colocar una base de sombrilla encima de un suelo de madera, ponte en contacto con la tienda en la que lo compraste para saber si es compatible con el hormigón.

## Italiano

### Istruzioni per l'uso

- Sciacqua con acqua la base dell'ombrellone per eliminare la polvere di calcestruzzo prima di usarla per la prima volta.
- La base dell'ombrellone è pesante perché deve tenere fermo l'ombrellone, quindi fai attenzione quando la sposti.

- La base dell'ombrellone deve essere sempre collocata su una superficie dura e piatta. Non collocare la base dell'ombrellone su un terreno sabbioso, fangoso o non compatto.

### Importante

Il calcestruzzo nella base dell'ombrellone può reagire negativamente con alcuni tipi di legno (per esempio l'eucalipto), causando una perdita di colore se collocato su una superficie in legno. Per evitare il rischio di scolorimento, rivolgiti al fornitore della tua superficie in legno per assicurarti che questa sia compatibile con il calcestruzzo.

## Magyar

### Használat

- Az első használat előtt locsol le vizsel, hogy eltüntessék róla a port.
- A napernyő talp nehéz, légy nagyon óvatos a mozgatása közben.
- A napernyő talpat kemény és egyenes felületre kell tenni. Ne tess homokos, saras vagy puha talajra.

### Fontos

A napernyő talpát képező beton reakcióba léphet bizonyos fajtákból készült padlóbürkolatokkal (pl. eukalíptusz), amelyek elszíneződést okozhat. Bizonyosodj meg arról, hogy a talp és a padlóbürkolat kompatibilis-e egymással, így elkerülheted ezek elszíneződését.

## Polski

### Sposób użycia

- Przed pierwszym użyciem opłucz podstawkę parasola wodą, aby usunąć pył betonowy.
- Podstawa parasola jest ciężka, aby mogła utrzymać parasol w miejscu, dlatego należy uważać podczas jej przenoszenia.
- Podstawa parasola musi zawsze być umieszczona na twardej i równej powierzchni. Nie stawiaj podstawy parasola na piaskistej, błotnistej lub luźnej glebie.

### Ważne

Beton w podstawie parasola może reagować niekorzystnie z niektórymi rodzajami drewna (np. eukaliptusowym), powodując przebarwienia, jeśli będzie umieszczony na drewnianym tarasie. Zasięgnij informacji w sklepie, w którym kupiłeś deski tarasowe, aby upewnić się, że beton nie spowoduje przebarwień.

## Festi

### Kasutamine

- Betoonitolmu eemaldamiseks loputa pääkesevarju alust veega. Tee seda enne, kui sa alust kasutama hakkad.
- Pääkesevarju alus on raske, et see piigal püsiks, seega ole ettevaatlak, kui sa seda liigutad.
- Aseta pääkesevarju alus alati tugevale ja tasasele pinnale. Ära aseta pääkesevarju alust liivasele, mudasele või pehmele pinnale.

### Oluline

Pääkesevarju põhjas asuv betoon võib ebasoodsalt reageerida teatud tüüpide puitudega (nt eukaliptiga), mille tulemuseks võivad olla muutused selle värvis, kui asetad pääkesevarju puidust pinnale. Võta ühendust poega, kust põrandakatte ostsid, et veenduda selle sobivuses betooniga ja vältida värvi muutusi.

## Latviešu

### Lietošanas instrukcija

- Pirms pirmās lietošanas reizes noskalot saulesargu pamatni ar ūdeni, notīri cements puteklus.
- Saulesargu pamatne ir smaga, lai spētu noturēt saulesargu vietā, tāpēc tā jāpārvieto piesardzīgi.
- Saulesargu pamatne vienmēr jāliek uz cetas un taisnas virsmas. Novietot saulesargu pamatni uz zemes smilšainā, dublīnā vai irdenā vietā.
- Svarīgi!**  
Ja saulesargu novieto uz koka virsmas, saulesargu pamatne esošais betons var reaģēt ar noteikta tipa koksnī (piem., eikalipta), izraisot krāsas izmaiņas. Sazīnes ar veikalu, kur iegādājies grīdas segumu, lai pārliecinātos, ka tas nereāgēs ar betonu.

## Lietuvių

### Naudojimas

- Prieš naudodami skėčio pagrindą pirmą kartą išplaukiti vandeniu, kad neliktu betono dulkių.
- Skėčio pagrindas sunkus, nes turi išlaikyti skėtį stabilioje padėtyje, todėl ji kilnokite ypač atsargiai.
- Skėčio pagrindą padėkite ant tvirto kieto paviršiaus. Smėlis, puri ar pažiliugusi žemę tam netinka.
- Svarbu**  
Betoninė skėčio pagrindo dalis gali sukelti tam tikrus rūšių medienos, tokios kaip eukalipto, spalvos pasikeitimą. Taip galėtų nutikti laikant skėčio pagrindą ant medinių grindų. Kreipkitės į parduotuvės, kurioje išsigjote grindų dangą, darbuotojus, jei norite žinoti, kaip ji reaguoją į sąlytį su betonu.

## Portugues

### Como usar

- Enxague a base para guarda-sol com água para remover o pó de cimento antes de a utilizar pela primeira vez.
- A base para guarda-sol é pesada para permitir manter o guarda-sol no lugar, por isso, tenha cuidado ao deslocá-la.
- A base para guarda-sol deve ser sempre colocada numa superfície dura e uniforme. Não coloque a base para guarda-sol sobre areia, lama ou cascalho.

### Importante

O cimento da base para guarda-sol pode reagir a certos tipos de madeira (como o eucalipto), provocando uma descoloração se for colocada sobre um pavimento em madeira. Contacte a loja IKEA onde comprou o pavimento para certificar-se de que este é compatível com o cimento, de modo a evitar qualquer risco de descoloração.

## عربی

### طريقة الاستخدام

- اشطفى قاعدة المظلة بالماء لزالة الغبار الخرساني قبل الاستخدام لأول مرة.
- قاعدة المظلة تقليل الحذر عند تحريكها.
- يجب دائمًا وضع قاعدة المظلة على سطح صلب ومستو، لا تضع قاعدة المظلة على تربة ملحة أو موحلة أو مفككة.

### هام

قد تتفاعل الخرسانة الموجودة في قاعدة المظلة بشكل سلبي مع أنواع معينة من الخشب (مثل الأكالبتوس). فإذا تم وضع قاعدة المظلة على أرضية خشبية فقد يتغير لون الخشب. يرجى الاتصال بالمندوب الذي استيرت منه الأر zie لتجنب أي خطأ لحدث تغيير اللون.

## Turkish

### Kullanım

- İlk kullanıldan önce beton tozunu temizlemek için şemsiye tabanını suyla durulayın.
- Şemsiyeyi yerinde tutabilmek için şemsiyenin tabanı ağırdır. Bu yüzden taşırken diktilik olun.
- Şemsiye tabanı daima sert ve düz bir zemin üzerine yerleştirilmelidir. Şemsiye tabanını kumlu, çamurlu veya gevşek toprak üstüne koymayın.

### Önemli

Şemsiye tabanındaki beton, bazı ahşap türleriyle (örn. Okaliptüs) olumsuz reaksiyonlarla girebilir ve ahşap dösemeye yerleştirildiğinde renk solmasına neden olabilir. Renk atma riskini önlemek için betonlu yuvaları olduğundan emin olmak için zemin kaplamayı satın aldığınız mağazaya danışın.

## 中文

### 使用说明

- 首次使用前，先用水冲洗阳伞底座，以除去混凝土灰尘。
- 为了将阳伞固定在位，阳伞底座较重，因此在移动阳伞时要小心。
- 阳伞底座必须始终放在坚硬且平坦的表面上。请勿将阳伞底座放在沙质、泥泞或松散的土壤上。

### 重要

阳伞底座中的混凝土可能对特定类型的木材（如桉木）产生不利影响，若置于木制饰面上可能造成褪色。为避免褪色，请联系饰面的销售商场，确保其材质可以接触混凝土。

## 繁中

### 使用說明

- 第一次使用前，用水清洗陽傘基座，去除灰塵。
- 為了能固定陽傘，陽傘基座非常重，請小心移動。
- 必務將陽傘基座放在堅硬、平坦的表面上。請勿將陽傘基座放在沙地、泥地或鬆軟的土壤上。

### 重要資訊

陽傘基座所使用的水泥可能對一些木頭(尤加利木)造成影響，如果放在木質地板上會造成褪色。請聯絡購買得地板的商店，確認地板是否適合接觸水泥，以免發生褪色的危險。洋槐與加壓浸油的木材接觸水泥，不會褪色。

## Korean

### 사용 방법

- 처음 사용하기 전에 파라솔받침을 물로 헹궈 콘크리트 먼지를 제거합니다.
- 파라솔받침은 파리솔을 제자리에 고정하도록 무겁게 제작되었으므로 옮길 때 주의해야 합니다.
- 파라솔받침은 항상 단단하고 평평한 표면에 놓아야 합니다. 파라솔받침을 모래, 진흙 또는 푸석한 흙 위에 놓지 마세요.

### 중요

파라솔받침의 콘크리트는 특정 목재(예: 유칼립투스)에 거부 반응을 일으킬 수 있으며 이 경우 목재 조립마루에 배치하면 변색될 수 있습니다.

있습니다. 변색의 위험을 방지하기 위해 조립마루를 구매한 매장에 문의하여 콘크리트와 호환되는 목재인지 확인하세요.

## 日本語

### 使い方

- パラソル土台の表面にコンクリートの粉が付着していることがあるため、初めてご使用になる前に水で洗い流してください。
- パラソルを固定するため、パラソル土台は重量があります。移動する際には十分にご注意ください。
- パラソル土台は必ず固い平らな場所に設置してください。砂地、泥地、ゆるい土の上には設置しないでください。

### 重要

パラソル土台に使用しているコンクリートは、一部の木材（ユーカリ材など）と反応してウッドデッキを変色させることができます。ウッドデッキに設置する場合は、コンクリートに接触しても変色しないことを購入店にご確認ください。

## Bahasa Indonesia

### Cara menggunakan

- Bilas alas tenda payung dengan air untuk menghilangkan debu beton sebelum digunakan pertama kali.
- Alas tenda payung berat agar tenda payung tetap di tempatnya, jadi berhati-hatilah saat memindahkannya.
- Alas tenda payung harus selalu diletakkan di atas permukaan yang keras dan rata. Jangan letakkan alas tenda payung di atas tanah berpasir, berlumpur, atau gembur.

### Penting

Beton pada bagian dasar parasol tidak cocok dengan jenis kayu tertentu (mis. Kayu putih), yang mengakibatkan perubahan warna jika ditempatkan pada penghiasan kayu. Beli tempat parasol yang tersedia di toko setempat untuk memastikan itu kompatibel dengan beton untuk menghindari risiko perubahan warna.

## Bahasa Malaysia

### Cara penggunaan

- Bilas dasar payung dengan air untuk menghilangkan habuk konkrit sebelum penggunaan pertama.
- Dasar payung berat untuk memastikan payung kekal di tempatnya, jadi berhati-hatilah ketika memindahkannya.
- Dasar payung hendaklah sentiasa diletakkan di permukaan yang keras dan rata. Jangan letakkan dasar payung di tanah berpasir, berlumpur atau peroi.

### Penting!

Simen pada dasar payung mungkin menghasilkan tindak balas yang tidak diingini pada jenis-jenis kayu tertentu (cth. kayu putih) yang mengakibatkan warna pudar jika ditempatkan di atas geladak kayu. Hubungi gedung di mana anda membeli geladak anda bagi memastikan ia sesuai dengan simen bagi mengelakkan risiko warna pudar.

## Tiếng Việt

### Cách sử dụng

- Trước khi sử dụng lần đầu, rửa đù dù với nước để loại bỏ bụi bê tông.
- Đù dù có trọng lực nặng để giúp dù đứng vững; do đó, hãy cẩn thận khi di chuyển đù dù.
- Đù dù phải được đặt trên một bề mặt cứng và bằng phẳng. Không đặt đù dù lên bề mặt có cát, có bùn hoặc bề mặt đất tối xám.

### Quan trọng

Bé tông trong đù dù ngoài trời có thể phản ứng lại với một số loại gỗ nhất định (như gỗ bạch đàn), dẫn đến tình trạng bay màu sàn phán nếu đặt trên sàn gỗ. Лиên hệ với cửa hàng bán sàn gỗ để đảm bảo chúng tương thích với bê tông, tránh xảy ra tình trạng bay màu.